

## فہرست

iii	پیش لفظ
	<b>باب 1</b>
1	ہندوستان — سائز اور وقوع
	<b>باب 2</b>
8	ہندوستان کی طبعی شکل و صورت
	<b>باب 3</b>
20	پن نکاسی
	<b>باب 4</b>
31	آب و ہوا
	<b>باب 5</b>
50	قدرتی نباتات اور جنگلاتی زندگی
	<b>باب 6</b>
63	آبادی
	فرہنگ اصطلاحات